

Phone call between Prime Minister Shri Narendra Modi and H.E. Pham Minh Chinh, Prime Minister of Vietnam

July 10, 2021

وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے ویت نام کے وزیر اعظم عزت مآب فیم منہ چنہ سے فون پر بات کی 10 جولائی، 2021

نئی دہلی، 10 جولائی 2021، وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج ویت نام کے وزیر اعظم عزت مآب فیم منہ چنہ سے فون پر بات کی۔

وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے ویت نام کا وزیر اعظم مقرر کئے جانے پر عزت مآب فیم منہ چنہ کو مبارکباد پیش کی اور اس بات پر اعتماد کا اظہار کیا کہ ان کی رہنمائی میں بھارت۔ ویت نام جامع اسٹریٹجک شراکت داری مستحکم ہوتی رہے گی۔

وزیر اعظم نے اس بات کا خیر مقدم کیا کہ دونوں ملکوں کا ایک کھلے، شمولیت والے، پر امن اور قانون کی حکمرانی والے بحر ہند خطے کے بارے میں یکساں نظریات رکھتے ہیں اور اس لئے بھارت۔ویت نام جامع اسٹریٹجک شراکت داری سے خطے کے استحکام، خوشحالی اور ترقی کو فروغ حاصل ہوتا رہے گا۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ اس وقت بھارت اور ویت نام دونوں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ساتھی ارکان ہیں۔

وزیر اعظم نے بھارت میں کووڈ-19 عالمی وبا کی دوسری لہر کے دوران حکومت ویت نام اور وہاں کے عوام کے ذریعہ گراں قدر امداد فراہم کرانے پر وزیر اعظم چنہ کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں لیڈروں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ عالمی وبا کے دوران ایک دوسرے سے مشورہ کرنا اور ایک دوسرے کی مسلسل کوششوں میں مدد کے لئے تعاون کرنا جاری رکھیں گے۔

دونوں وزرائے اعظم نے دو طرفہ تعلقات کی صورتحال کا جائزہ لیا اور تعاون کے مختلف شعبوں سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ سال 2022 دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات کے قیام کی 50 ویں سالگرہ کا سال ہے، انہوں نے اس مبارک موقع کو مختلف یادگار تقاریب کے ذریعہ مناسب طریقے سے منانے پر اتفاق کیا۔

وزیر اعظم مودی نے وزیر اعظم چنہ کو جلد ہی کسی مناسب تاریخ کو بھارت کے سرکاری دورے پر آنے کے لئے مدعو بھی کیا۔

نئی دہلی

10 جولائی، 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.